



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 16/7/2024

گورنر HOCHUL نے نیو یارک باسیوں کو آج شدید موسم کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی

وسطی نیو یارک، موہاک ویلی، کیپیٹل ریجن اور نارٹھ کینٹری میں نقصان پہنچانے والی ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ متعدد آندھیاں اور شدید طوفان متوقع ہے

نیو یارک سٹی، مڈ ہڈسن ریجن اور لانگ آئی لینڈ کے لیے گرمی کی پیشگوئیوں میں بدھ تک توسیع کر دی گئی ہے

گورنر Kathy Hochul نے نیویارک کے شہریوں کو آج وسطی نیو یارک، موہاک ویلی، کیپیٹل ریجن اور نارٹھ کینٹری میں شدید موسم کے بڑھتے ہوئے خطرے سے متنبہ کیا جن میں نقصان پہنچانے والی ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ متعدد آندھیاں چلنے کی توقع ہے۔ ان علاقوں میں بگولے دار طوفان بھی آ سکتے ہیں۔ ان طوفانوں کے مغربی نیو یارک میں صبح کے آخری چند گھنٹوں میں شروع ہونے کی توقع ہے اور یہ دوپہر کے آخر تک پوری ریاست سے گزرتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھیں گے۔ شدید گرمی کے انتباہات رات 9 بجے تک بڑھا دیے گئے ہیں جو بدھ کو مڈ ہڈسن ریجن، NYC اور لانگ آئی لینڈ کے بیشتر حصوں کے لیے اور موہاک ویلی، نارٹھ کاؤنٹی، سینٹرل نیو یارک کے کچھ حصوں اور جنوبی ٹیئر کے لیے آج رات 8 بجے تک نافذ رہیں گے۔ موسم کی نگرانی کرنے والی تنظیموں، انتباہات، ایڈوائزرز اور تازہ ترین پیشگوئیوں کی ایک مکمل فہرست کے لئے، [نیشنل ویدر سروس \(National Weather Service\)](#) کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

"نیو یارک کے شہریوں کو آئندہ دو دنوں کے دوران خود کو ٹھنڈا رکھنے اور محفوظ رہنے کے لیے ہر ممکن احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ شدید طوفانوں، گرمی اور ہوا میں نمی کا بہت زیادہ تناسب نیو یارک کے کمزور اور بیمار شہریوں کی صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا،" گورنر Hochul نے کہا۔ "میری انتظامیہ موسم کے اثرات کی بغور نگرانی کرتی رہے گی اور ہم نیو یارک کے شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ موسم کی پیشگوئی پر کڑی نگاہ رکھیں، جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور اس وقت کے دوران گھر چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت پڑے تو اسکے لئے پیشگی منصوبہ بندی کر لیں۔"

گرج چمک والے طوفان ایسے خطرناک طوفان ہوتے ہیں جن میں +50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، آسمانی بجلی اور اولے پڑ سکتے ہیں اور یہ سیلاب اور بگولوں والے طوفان کا سبب بن سکتے ہیں۔

گرج چمک والے طوفانوں میں حفاظتی تجاویز:

- اگر آپ کو گرج کی آواز آئے، تو آپ بجلی کے گرنے کی وجہ سے مشکل میں پھنسنے کے امکان سے دوچار ہیں۔ فوراً کسی محفوظ پناہ میں چلے جائیں۔
- کسی مضبوط عمارت میں منتقل ہو جائیں۔ چھوٹے شیڈز، الگ تھلگ درختوں کے نیچے، یا کنورٹیبیل گاڑیوں میں پناہ نہ لیں۔

- اگر آسمانی بجلی چمک رہی ہو اور کوئی مضبوط پناہ دستیاب نہ ہو، تو کسی ہارڈ ٹاپ گاڑی میں جا کر کھڑکیوں کے شیشے چڑھا لیں۔
- کشتی سے اتر کر پانی سے دور چلے جائیں۔
- ٹیلی فون کی تاریں اور لوہے کے پائپس بجلی کے اچھے موصل ہوتے ہیں۔ موسم سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آلات پلگ سے ہٹا دیں۔ ٹیلی فون یا بجلی سے چلنے والے آلات کے استعمال سے گریز کریں۔
- باتھ یا شاور نہ لیں۔
- ایئر کنڈیشنرز بند کر دیں — بجلی کی شدت سے کمپریسرز اوورلوڈ ہو سکتے ہیں۔
- اگر فوری سیلاب یا سیلاب کا خدشہ ہو تو اوپری منزل پر چلے جائیں۔
- حفاظتی جگہ پر جانے کے لیے گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں — زیادہ تر سیلابی اموات موٹر گاڑیوں میں ہی واقع ہوتی ہیں۔
- اگر باہر ہیں تو، تو درختوں، جنگلوں اور کھمبوں سے دور نچلی جگہ تلاش کریں۔
- اگر آپ جنگل میں ہیں، تو چھوٹے درختوں کے نیچے پناہ لیں۔
- اگر آپ جلد میں جھنجھناہٹ یا اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس کرتے ہیں، تو پنچوں کے بل زمین کے قریب ہوں؛ اپنے گھنٹوں پر ایسے ہاتھ رکھیں کہ سر ان کے درمیان ہو؛ خود کو ہدف بننے سے ممکنہ حد تک بچائیں؛ اور گراؤنڈ سے اپنا فاصلہ کم سے کم کریں۔

بگولوں والے طوفان میں حفاظتی تجاویز:

- اگر گھر سے باہر ہیں: فوری طور پر کسی مضبوط عمارت میں پناہ حاصل کریں۔ اگر آس پاس کوئی جائے پناہ نہ ہو، تو اپنے ہاتھوں سے سر کو ڈھانپتے ہوئے کسی گڑھے یا نچلی جگہ پر سیدھے لیٹ جائیں۔
- اپنی کار میں بیٹھ کر بگولے سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں؛ اسکے بجائے، کار سے فوراً نکل جائیں۔

- اگر گھر میں یا کسی چھوٹی عمارت میں ہیں: تہ خانے میں یا عمارت کی سب سے نچلی منزل کے کسی اندرونی کمرے میں چلے جائیں۔ کھڑکیوں سے دور رہیں۔ الماریاں، بیت الخلاء اور دیگر اندرونی کمرے بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ کسی مضبوط چیز کے نیچے گھس جائیں یا اپنے آپ کو گدے سے ڈھانپ لیں۔
- اگر سکول، ہسپتال، یا شاپنگ سینٹر میں ہیں: پہلے سے مقرر کردہ پناہ گاہ میں چلے جائیں۔ بڑے کھلے علاقوں اور کھڑکیوں سے دور رہیں۔ اپنی کار سے باہر نہ نکلیں۔
- اگر کسی بلند و بالا عمارت میں ہیں: کسی اندرونی چھوٹے کمرے یا دالان میں یا ممکن ہو تو سب سے نچلی منزل پر چلے جائیں۔ لفٹ استعمال نہ کریں۔ سیڑھیاں استعمال کریں۔
- اگر کسی موبائل گھر یا گاڑی میں ہیں: موبائل گھر یا گاڑی سے باہر نکل جائیں - بگولے کی تیز ہوائیں انہیں آسانی سے ہوا میں اچھال سکتی یا الٹ پلٹ سکتی ہیں۔
- کسی مضبوط عمارت میں پناہ حاصل کریں۔ اگر آس پاس کوئی پناہ گاہ نہ ہو، تو اپنے ہاتھوں سے سر کو ڈھانپ کر کسی گڑھے یا نچلی جگہ پر چت لیٹ جائیں۔

اچانک سیلاب کے دوران، کسی سیلاب زدہ سڑک پر کبھی گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں۔ واپس مڑ جائیں اور دوسری سمت میں چل پڑیں۔ اگر آپ کی گاڑی میں آپ کے آس پاس پانی تیزی سے بڑھنے لگے تو گاڑی سے فوراً اتر جائیں۔ تیز بہاؤ والے پانی کی طاقت کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ تیز بہاؤ والا دو فٹ گہرا پانی آپ کی گاڑی کو بہا لے جائے گا اور دو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا پانی گاڑیوں کو سڑک یا ٹیل پر سے بہا کر لے جا سکتا ہے۔

نیو یارک کے ریاستی پارکوں میں تیراکی کے لیے متعدد تالاب اور ساحل دستیاب ہیں۔ گورنر Hochul نے اس موسم گرما میں ریاست نیو یارک کے پارکوں میں واقع تالابوں کی داخلہ فیس معاف کر دی ہے۔ سیر پر جانے سے پہلے، آپ کو چاہیے کہ اس پارک کو کال کر لیں جس کی سیر کرنے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں، یا تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے [ویب سائٹ](#) دیکھیں کیونکہ موسم اور پانی کی صورتحال تیراکی کے حالات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پارکوں کی صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹس iOS اور Android ڈیوائسز کے لیے ریاست نیو یارک کی مفت Parks Explorer موبائل ایپ پر دستیاب ہیں۔

آپ مفت ایئر کنڈیشننگ یونٹ کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ ہوم انرجی اسسٹنس پروگرام (Home Energy Assistance Program, HEAP) ایسے اہل آمدن والے گھرانوں میں، کہ جن میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی تحریر شدہ طبی حالت شدید گرمی کی وجہ سے بڑھ گئی ہو، یا ایسے گھرانوں میں ایئر کنڈیشننگ یونٹ فراہم کر سکتا ہے کہ جن میں چھوٹے بچے یا بڑے بزرگ موجود ہوں۔ فنڈنگ ختم ہو جانے تک درخواستیں وصول کی جاتی رہیں گی۔ مزید معلومات کے لیے دفتر برائے عارضی اور معذوری کی معاونت (Office of Temporary and Disability Assistance) کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا 1-800-342-9871 پر مقامی دفتر برائے عمر رسیدہ افراد سے رابطہ کریں۔

گرم موسم کے دوران آپ کیا حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں انکی معلومات [محکمہ صحت \(Department of Health\)](#) کی انتہائی گرمی کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کریں۔ آپ [اپنے قریبی کولنگ سینٹرز یہاں](#) بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

گرم گاڑیوں میں کبھی بھی بچوں اور پالتو جانوروں کو اکیلا مت چھوڑیں۔ زیادہ درجہ حرارت گرم "محسوس" نہ بھی ہوں تب بھی بچوں یا پالتو جانوروں کو گاڑی میں اکیلا چھوڑنا ایک حقیقی اور شدید خطرے والا عمل ہوتا ہے۔ باہر 60 ڈگریز میں، صرف ایک گھنٹے بعد ہی ایک بند گاڑی 105 ڈگریز تک گرم ہو سکتی ہے۔

###

مزید خبریں www.governor.ny.gov پر دستیاب ہیں
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
گورنر آفس سے اپ ڈیٹس کے لیے سائن اپ کریں: ny.gov/signup | 81336 پر NEW YORK ٹیکسٹ کریں

[ان سبسکرائب کریں](#)